


EN Start Here
FR Démarrez ici
ES Para empezar


PT Começar por aqui
LV Sāciet šeit



© 2022 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX



Contents may vary by location.
Le contenu varie en fonction de la localisation géographique.
El contenido puede variar según la región.
O conteúdo pode variar dependendo da localização.
Atkarībā no atrašanās vietas, saturs var mainīties.



Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
Ne connectez pas de câble USB à moins d'y être invité.
No conecte ningún cable USB a menos que se le indique que lo haga.
Não ligue o cabo USB a não ser que isso lhe seja solicitado.

Nepievienojiet USB vadu, ja neesat saņēmis attiecīgus norādījumus.

Setting Up the Printer

See this guide or Epson video guides for printer setup instructions. For information on using the printer, see the *User's Guide* on our Web site. Select **Support** to access the manuals.

Consultez ce guide ou les guides vidéo Epson pour obtenir les instructions de configuration de l'imprimante. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'imprimante, consultez le *Guide d'utilisation* sur notre site Web. Sélectionnez **Prise en charge** pour accéder aux manuels.

Consulte esta guía o las guías en vídeo de Epson para ver las instrucciones de configuración. Para obtener información sobre el uso de la impresora, consulte el *Manual de usuario* en nuestro sitio web. Seleccione **Ayuda** para acceder a los manuales.


Consulte este guia ou os vídeos guias da Epson para obter instruções de configuração da impressora. Para mais informações sobre como utilizar a impressora, consulte o *Guia do Utilizador* no nosso sítio Web. Seleccione **Suporte** para aceder aos manuais.

Printera iestāšanās instrukcijas skatiet šajā rokasgrāmatā vai Epson video pamācībās. Informāciju par printeru lietošanu skatiet *Lietotāja rokasgrāmatā* mūsu tīmekļa vietnē. Lai piekļūtu rokasgrāmatām, atlasiet **Atbalsts**.




<https://epson.sn>


1 Remove all protective materials.
Retirez tout le matériel de protection.
Retire los materiales de protección.
Remova todos os materiais de proteção.
Noņemiet visus aizsargmateriālus.




Do not dispose. Attach them when transporting.
Ne pas jeter. Attachez-les lors du transport.
No lo deseché. Colóquelo durante el transporte.
Não descartar. Fixar durante o transporte.
Neizmetiet. Transportēšanas laikā piestipriniet tos.



2 Insert the output tray.
Insérez le bac de sortie.
Inserte la bandeja de salida.
Insira o tabuleiro de saída.
Ievietojiet papīra izvades uztvērēju.




3 Connect the power cord and USB cable (if applicable).




4 Select a language, country and time.
Choisissez une langue, le pays et l'heure.
Seleccione un idioma, país y hora.
Selecione um idioma, país e hora.
Atlasiet valodu, valsti un laiku.




5 Open the BK ink tray.
Ouvrez.
Abra.
Abrir.
Atverat.




6 Press the BK ink tray, and then pull it out.
Appuyez sur le réceptacle d'encre BK, puis retirez-le.



Presione la bandeja de tinta negra (BK) y tire de ella.
Pressione o tabuleiro de tinta BK e puxe para fora.
Nospiediet BK tintes paliktni, un izņemiet to.



7 Shake the ink supply unit 10 times well.
Secouez bien l'unité d'alimentation encre 10 fois.



Agite bien la unidad de suministro de tinta 10 veces.
Agite bem a unidade de alimentação de tinta 10 vezes.
10 reizes stipri sakratiet tintes padeves bloku.

For the initial setup, make sure you use the ink supply units that came with this printer. These ink supply units cannot be saved for later use. The initial ink supply units will be partly used to charge the print head. These ink supply units may print fewer pages compared to subsequent ink supply units.


Pour la configuration initiale, assurez-vous d'utiliser les unités d'alimentation encre livrées avec cette imprimante. Ces unités d'alimentation encre ne peuvent pas être conservées pour une utilisation ultérieure. Les unités d'alimentation encre initiales seront partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Il se peut que ces unités d'alimentation encre impriment moins de pages en comparaison avec les unités d'alimentation encre ultérieures.

Para la configuración inicial, asegúrese de utilizar las unidades de suministro de tinta incluidas con esta impresora. Estas unidades de suministro de tinta no se pueden guardar para usarse con posterioridad. Las unidades de suministro de tinta iniciales se utilizarán parcialmente para cargar el cabezal de impresión. Estas unidades de suministro de tinta pueden imprimir menos páginas que las unidades de suministro de tinta posteriores.


Na configuração inicial, certifique-se de que utiliza as unidades de alimentação de tinta fornecidas com esta impressora. Não pode guardar estas unidades de alimentação de tinta para as utilizar mais tarde. As unidades de alimentação de tinta serão utilizadas parcialmente para carregar a cabeça de impressão. Estas unidades de alimentação de tinta poderão imprimir menos páginas em comparação com as unidades de alimentação de tinta que utilizar posteriormente.

Sākotnējai uzstādīšanai, pārliecinieties, ka izmantojat printeru komplektācijā esošos tintes padeves blokus. Šie tintes padeves bloki nav domāti vēlākai izmantošanai. Sākotnējie tintes padeves bloki tiks daļēji izmantoti drukas galviņas uzpildei. Šie tintes padeves bloki var izdrukāt mazāk lapu, nekā sekojošie tintes padeves bloki.

8 Unpack the ink supply unit.
Déballez.
Desempaquete.
Desempacotar.
Atpakoja.




9 Fit the ink supply unit into the ink tray.
Insérez l'unité d'alimentation encre dans le bac d'encre.
Instale la unidad de suministro de tinta en la bandeja.



Encaixe a unidade de alimentação de tinta no tabuleiro de tinta.
Ievietojiet tintes padeves bloku tintes paliktnī.

10 Insert and close the ink supply units in the order Y, M, C.
Insérez et fermez. Insérez l'ensemble des unités d'alimentation encre dans l'ordre, Y, M, C.






Introduzca y cierre. Introduzca todas las unidades de suministro de tinta en el siguiente orden: Y, M, C.
Inserir e fechar. Inserir todas as unidades de alimentação de tinta pela ordem Y, M, C.
Ievietojiet un aizveriet. Ievietojiet visus tintes padeves blokus secībā: Y, M, C.



Wait until the charging is finished.
Patientez jusqu'à ce que le chargement soit terminé.
Espere hasta que finalice la carga.
Aguarde que o carregamento termine.
Gaidiet līdz uzlāde ir pabeigta.

12 Load paper in the paper cassette with the printable side facing down.
Chargez du papier dans le bac à papier avec la face imprimable tournée vers le bas.
Cargue el papel en la bandeja de papel con la cara imprimible orientada hacia abajo.
Coloque papel no alimentador de papel com a face a imprimir voltada para baixo.
Papīra kasetne ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju.






Do not load paper above the ▼ arrow mark inside the edge guide.
 Ne chargez pas le papier au-dessus de la flèche ▼ à l'intérieur du guide de bord.
 No cargue papel por encima de la marca de flecha ▼ interna de la guía para bordes.
 Não coloque documentos acima da marca de seta ▼ dentro da guia de margens.
 Ievietotā papīra kaudzītē nedrīkst būt augstāka par ▼ bultiņas zīmi malu vadotnes iekšpusē.

13 Set the paper size and paper type for the paper cassette. You can change these settings later.
 Définissez le format et le type de papier pour le bac à papier. Vous pourrez modifier ces paramètres plus tard.
 Establezca el tamaño y el tipo de papel para el cassette del papel. Puede modificar estos ajustes más adelante.
 Configure o tamanho e tipo do papel do alimentador de papel. Pode alterar estas definições mais tarde.
 Iestatiet papīra kasetne papīra izmēru un veidu. Šos iestatījumus vēlāk varat mainīt.


14 When the paper setting is complete, the print quality adjustment screen is displayed. Follow the on-screen instructions to perform adjustments.
 Lorsque le paramétrage du papier est terminé, l'écran de réglage de la qualité d'impression s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages.
 Cuando termine de configurar el papel, se mostrará la pantalla de ajuste de la calidad de impresión. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar los ajustes.
 Ao terminar a configuração de papel, será exibida a janela de definições de qualidade de impressão. Siga as instruções apresentadas no ecrã para efetuar ajustes.
 Kad papīra iestatījums ir pabeigts, parādās drukas kvalitātes pielāgojuma ekrāns. Lai veiktu pielāgojumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

15 Make the fax settings. You can change these settings later. If you do not want to make settings now, close the fax settings screen.




Définissez les paramètres de télécopie. Vous pourrez modifier ces paramètres plus tard. Si vous ne souhaitez pas les définir maintenant, fermez l'écran des paramètres de télécopie.
 Configure los ajustes de fax. Puede modificar estos ajustes más adelante. Si no quiere realizar ajustes ahora, cierre la pantalla de ajuste de fax.
 Defina as definições de fax. Pode alterar estas definições mais tarde. Se não pretende fazer alterações agora, feche o ecrã das definições de fax.
 Veiciet faksa iestatījumus. Šos iestatījumus vēlāk varat mainīt. Ja šobrīd nevēlaties veikt iestatījumus, aizveriet faksa iestatījumu ekrānu.

16 Connect a phone cable.
 Connectez un câble téléphonique.
 Conecte un cable de teléfono.
 Ligue um cabo de telefone.
 Pievienojiet tālruņa kabeli.



Available phone cable	RJ-11 Phone Line / RJ-11 Telephone set connection.
Câble téléphonique disponible	Connexion ligne téléphonique RJ-11 / Téléphone RJ-11.
Cable de teléfono disponible	Línea de teléfono RJ-11 / Conexión de teléfono RJ-11.
Cabo telefónico disponible	Cabo de telefone RJ-11 / Ligaçao de telefone RJ-11.
Pieejamais tālruņa kabelis	RJ-11 tālruņa līnija / RJ-11 telefona aparāta pieslēgums.

Depending on the area, a phone cable may be included with the printer, if so, use the cable.
 Selon la région, un câble téléphonique peut être fourni avec l'imprimante. Dans ce cas, utilisez-le.
 Dependiendo de la zona, podría incluirse un cable de teléfono con la impresora. En ese caso, emplee dicho cable.
 Dependendo da área, o cabo de telefone pode estar incluído com a impressora, se for o caso, utilize esse mesmo cabo.
 Atkarībā no rajona, tālruņa kabelis var tikt iekļauts komplektā ar printeri, ja tā, izmantojiet kabeli.



If you want to share the same phone line as your telephone, remove the cap and then connect the telephone to the EXT. port.
 Si vous souhaitez partager la même ligne téléphonique que votre téléphone, retirez le cache et connectez le téléphone au port EXT.
 Si desea compartir la misma línea telefónica que su teléfono, quite la tapa y conecte el teléfono al puerto EXT.
 Se quiser partilhar a mesma linha telefónica do telefone, retire a tampa e ligue o telefone à porta EXT.
 Ja vēlaties koplietot tādu pašu tālruņa līniju, kāda ir jūsu tālrunim, noņemiet vāciņu un pēc tam savienojiet tālruni EXT. pieslēgvietai.


18 Connect your computer or smart device with the printer. Visit the website to install software and configure the network. Windows users can also install software and configure the network using the CD supplied.
 Connectez votre ordinateur ou périphérique intelligent à l'imprimante. Consultez le site Web pour installer le logiciel et configurer le réseau. Les utilisateurs Windows peuvent également installer le logiciel et configurer le réseau à l'aide du CD fourni.
 Conecte su ordenador o dispositivo inteligente con la impresora. Visite el sitio web para instalar el software y configurar la red. Los usuarios de Windows también pueden instalar el software y configurar la red utilizando el CD suministrado.
 Ligue o computador ou dispositivo inteligente à impressora. Visite o website para instalar software e configurar a rede. Os utilizadores Windows também podem instalar software e configurar a rede usando o CD fornecido.
 Savienojiet datoru vai viedierīci ar printeri. Apmeklējiet tīmekļa vietni, lai uzstādītu programmatūru un konfigurētu tīklu. Windows lietotāji var arī uzstādīt programmatūru un konfigurēt tīklu, izmantojot pievienoto CD.



Troubleshooting

For troubleshooting, press Ⓜ for assistance. This feature provides step by step and animation instructions for most issues such as adjusting print quality and loading paper.
 Pour le dépannage, appuyez sur Ⓜ pour l'assistance. Cette fonctionnalité fournit des instructions étape par étape et des animations pour la plupart des problèmes tels que le réglage de la qualité d'impression et le chargement du papier.
 Si necesita solucionar algún problema, pulse Ⓜ para solicitar ayuda. Esta función proporciona instrucciones paso a paso con animaciones para solucionar la mayoría de los problemas, como el ajuste de la calidad de la impresión y la carga del papel.

Para resolver problemas, presione Ⓜ para obter ajuda. Este recurso fornece instruções passo a passo e em forma de animação para a maior parte das questões, como o ajuste da qualidade de impressão e carregamento de papel.
 Lai saņemtu palīdzību saistībā ar traucējummeklēšanu, atlasiet Ⓜ. Šī funkcija sniedz detalizētus un ilustrētus norādījumus vairumā gadījumu, piemēram, saistībā ar drukas kvalitātes pielāgošanu un papīra ievietošanu.




Radio Equipment Information

For users in Europe and UK

Frequency Range Plage de fréquences Intervalo de frecuencias Intervalo de frequência Frekvences diapazons	2,400–2,483.5 MHz
Maximum Radio-Frequency Power Transmitted Puissance de radiofréquence maximale transmise Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida Potência máxima de radiofrequência transmitida Maksimālā pārraidītā radiofrekvenču jauda	20.0 dBm (EIRP)

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.
 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
 Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
 Для пользователей из России срок службы: 5 лет.
 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
 Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.
 Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
 Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
 Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
 Tel: 81-266-52-3131
 Web: http://www.epson.com/

LT Pradėkite čia AR ابدأ من هنا
ET Alusta siit FA از اینجا شروع کنید
TR Buradan Başlayın SW Anza Hapa



Turiny's gali skirtis priklausomai nuo vietovės. Sisu võib olenevalt asukohast erineda. İçerik konuma göre değişiklik gösterebilir.

قد تختلف المحتويات حسب الموقع.

محتوا ممکن است بسته به موقعیت مکانی متفاوت باشد.

Yaliyomo yanaweza kuwa tofauti kutegemea eneo.

Windows

Nejunkite USB laido, nebent nurodoma tai padaryti.

Ärge ühendage USB-kaablit enne vastava suunise saamist.

Sizden istenmediği sürece bir USB kablosu bağlamayın.

لا تقم بتوصيل كبل USB ما لم تكن هناك تعليمات بفعل ذلك.

كابل USB را تا زمانی که از شما خواسته نشده است متصل نکنید.

Usiunganishe kwenye kebo ya USB isipokuwa uelekezwe kufanya hivyo.

Setting Up the Printer

Spausdintuvo sąrankos instrukcijų ieškokite šiame vadove arba „Epson“ vaizdo vadovuose. Informacijos, kaip naudoti spausdintuvą, žr. *Vartotojo vadove*, skelbiamame mūsų interneto svetainėje. Vadovus rasite skiltyje **Palaikymas**.

Printeri häälustusjuhtnõid leiate sellest juhendist või Epsoni videojuhenditest. Teavet printeri kasutamise kohta vaadake *Kasutusjuhendist* meie veebisaidil. Juhendid leiate jaotisest **Tugi**.

Yazıcı kurulum talimatları için bu kılavuza veya Epson video kılavuzlarına bakın. Yazıcı kullanımı ile ilgili bilgiler için Web sitemizdeki *Kullanım Kılavuzu* bölümüne bakın. Kılavuzlara erişmek için **Destek** seçeneğini seçin.

راجع هذا الدليل أو أدلة Epson بالفيديو للاطلاع على تعليمات إعداد الطابعة. للحصول على معلومات بشأن استخدام الطابعة، راجع دليل المستخدم الموجود على موقعنا الإلكتروني. حدد الدعم للوصول إلى أدلة الاستخدام.


جهت اطلاع از دستورالعملهای تنظیم چاپگر، این راهنما یا راهنمای ویدیویی Epson را ملاحظه نمایید. جهت کسب اطلاعات درباره کار با چاپگر، راهنمای کاربر را در وبسایت ما ملاحظه کنید. برای دسترسی به دفترچه‌های راهنما، گزینه پشتیبانی را انتخاب کنید.

Tazama mwongozo huu au mwongozo ya video ya Epson kwa maagizo ya usanidi wa printa. Kwa maelezo kuhusu matumizi ya kichapishi, tazama *Mwongozo wa Mtumiaji* kwenye Tovuti yetu. Teua Auni ili kufikia mwongozo.




<https://epson.sn>

1 Nuimkite visas apsaugines medžiagas. Eemaldage kõik kaitsematerjalid. Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın. أزل جميع المواد الواقية. تمام مواد محافظتی را جدا کنید. Toa nyenzo zote za kuinga.




Neišmeskite. Pritvirtinkite jas transportuodami. No lo deseeche. Colóquelo durante el transporte. Atmayın. Taşırken onları takın. لا تتخلص منها. استخدمها عند النقل. آنها را دور نیاوردید. هنگام جابجایی آن‌ها را بچسباندید. Usitupe. Ziambatishe unaposafirisha.


2 Įdėkite išvesties dėklą. Sisestage väljastussalv. Çıkış tepsisini yerleştirin. أدخل درج الإخراج. سینی خروجی را قرار دهید. Ingiza trei towe.




3 Pasirinkite kalbą, šalį ir laiką. Valige keel, riik ja aeg. Dil, ülke ve zamanı seçin. حدد اللغة والبلد والوقت. زبان، کشور و زمان را انتخاب کنید. Teua lugha, nchi na saa.




5 Atidaryti. Avage. Açın. افتح. باز کنید. Fungua.



6 Paspauskite BK rašalo dėklą, tada jį ištraukite. Vajutage tindisahtlit BK ja tõmmake see siis välja. BK mürekkep tepsisine bastırın ve ardından dışarı çekin. اضغط على درج الحبر BK، ثم اسحبه للخارج. سینی جوهر BK را فشار دهید و به بیرون بکشید. Bofya trei ya wino ya BK, kisha uivurute.



7 10 kartų gerai pakratykite rašalo tiekimo talpyklą. Raputage tindivarustusseadet tugevalt 10 korda. Mürekkep besleme ünitesini 10 kere iyice çalkalayın. قم برج وحدة تزويد الحبر جيداً 10 مرات. توزيع كنده جوهر را 10 بار خوب تکان دهید. Tikisa vizuri kitengo cha kutoa wino mara 10.



Pirminei sąrankai būtina naudokite su šiuo spausdintuvu pateiktas rašalo tiekimo talpyklas. Šių rašalo tiekimo talpyklų negalima išsaugoti vėlesniam naudojimui. Pradinės rašalo tiekimo talpyklos bus iš dalies naudojamos spausdinimo galvutei įkrauti. Su šiomis rašalo tiekimo talpyklomis gali būti atspausdinta mažiau puslapių, palyginti su vėlesnėmis rašalo tiekimo talpyklomis.

Esmasel seadistamisel kasutage kindlasti tindivarustusseadmeid, mis on printeriga kaasas. Neid tindivarustusseadmeid ei saa jätta hilisemaks kasutamiseks. Algeid tindivarustusseadmeid kasutatakse osaliselt printidepa laadimiseks. Nende tindivarustusseadmetega võidakse printida vähem lehekülgi kui järgmiste tindivarustusseadmetega.


İlk kurulumda, bu yazıcıyla birlikte verilen mürekkep besleme ünitelerini kullandığınızdan emin olun. Bu mürekkep besleme üniteleri daha sonra kullanmak için saklanamaz. İlk mürekkep besleme üniteleri kısmen baskı kafasını doldurmak için kullanılacaktır. Bu mürekkep besleme üniteleri, sonradan takılacak mürekkep besleme ünitelerine kıyasla daha az sayfa yazdıracaktır.

للإعداد الأولي، تأكد من استخدام وحدات تزويد الحبر المرقفة بهذه الطابعة. لا يمكن حفظ وحدات تزويد الحبر لاستخدامها لاحقًا. ستستخدم وحدات تزويد الحبر الأولية جزئيًا لشحن رأس الطابعة. قد تطبع وحدات تزويد الحبر هذه صفحات أقل مقارنة بوحدات تزويد الحبر اللاحقة.


برای تنظیمات اولیه، مطمئن شوید که از توزیع کننده‌های جوهری استفاده می‌کنید که همراه چاپگر است. این تزويد جوهر را نمی‌توان برای استفاده در آینده انبار کرد. مقداری از محتوای توزیع کننده‌های جوهر اولیه برای شارژ هد چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این توزیع کننده‌های جوهر ممکن است در مقایسه با توزیع کننده‌های جوهر بعدی، صفحات کمتری را چاپ کنند.

Kwa usanidi wa kwanza, hakikisha umetumia vitengo vya kutoa wino vilivyokuja na kichapishi. Vitengo hivi vya kutoa wino haviwezi kuhifadhiwa ili kutumika baadaye. Vitengo vya kwanza vya kutoa wino vitatumika kidogo kuchaji kichwa cha kuchapisha. Vitengo hivi vya kutoa wino vinaweza kuchapisha kurasa chache kulinganishwa na vitengo vya baadaye vya kutoa wino.


8 Išpakuokite. Pakkige lahti. Boşaltın. أفرغ المحتوى. از محفظه بیرون بیاورید. Fungua.




9 Įdėkite rašalo tiekimo talpyklą į rašalo dėklą. Paigaldage tindivarustusseade tindisahtlisse. Mürekkep besleme ünitesini mürekkep tepsisine yerleştirin. ركب وحدة تزويد الحبر في درج الحبر. توزيع كنده جوهر را درون محفظه جوهر قرار دهید. Weka kitengo cha kutoa wino kwenye trei ya wino.



10 Įdėkite ir uždarykite. Įdėkite visas rašalo tiekimo talpyklas tokia tvarka: Y, M, C. Sisestage ja sulgege. Sisestage kõik tindivarustusseadmed järjekorras: Y, M, C. Takın ve kapatın. Tüm mürekkep besleme ünitelerini Y, M, C sırasıyla takın. أدخل الورق ثم أغلق الدرج. أدخل جميع وحدات تزويد الحبر بالترتيب Y و M و C. قرار دهید و ببندید. تمام توزیع کننده‌های جوهر را به ترتیب Y، M و C قرار دهید. Ingiza na ufunge. Ingiza vitengo vyote vya kutoa wino kwa utaratibu wa Y, M, C.





11 Information. Check if all ink supply units that came with this printer are installed. Touch OK to start installing. Initialization is complete.



Palaukite, kol bus baigtas įkrovimas. Oodake, kuni laadimine on lõppenud. Dolum bitene kadar bekleyin. انتظر حتى انتهاء الشحن. تا زمان که شارژ تمام شود منتظر بمانید. Subiri hadi ikamilishe kuchaji.

12 Popierių į popieriaus kasetę dėkite taip, kad spausdinamoji pusė būtų nukreipta į apačią. Laadige paber paberikasseti prinditav külg allpool. Kağıt kasetine, yazdırılabilir tarafı aşağıya bakar şekilde kağıt yükleyin. قم بإدراج الورق في درج الورق على أن يكون الجانب المراد طباعته مواجهًا لأسفل. کاغذ را در کاست کاغذ بگذارید در حالی که طرف قابل چاپ آن رو به پایین باشد. Pakia karatasi kwenye kaseti ya karatasi eneo la kuchapishwa likiangalia chini.





Paprastas popierius
Tavapaber
Düz kağıt

ورق فارغ
كاغذ ساده
Karatasi tupu

Storas popierius
Paks paber
Kalın kağıt

ورق سمیک
كاغذ ضخیم
Karatasi nene

Nedėkite popieriaus aukščiau už rodyklės ▼ ženklą krašto kreipiančiojoje. Ąrge laadige paberit servajuhiku sisekūljel olevast noolemārgist ▼ kōrgemale. Kağıdı kenar kılavuzu içindeki ▼ ok işaretini aşmayacak şekilde yükleyin.

لا تُحْمَلْ ورقًا أعلى علامة السهم ▼ داخل موجّه الحافة. Ąرge laadige paberit servajuhiku sisekūljel olevast noolemārgist ▼ kōrgemale. Kağıdı kenar kılavuzu içindeki ▼ ok işaretini aşmayacak şekilde yükleyin.

Usipakie karatasi juu ya alama ya mshale wa ▼ ndani ya mwongozo wa ukingo.

13 Pagal popieriaus kasetę nustatykite popieriaus dydį ir tipą. Vėliau šias nuostatas galėsite pakeisti. Määrake paberikasseti paberiformaat ja -tüüp. Saate neid sätteid hiljem muuta. Kağıt kaseti için kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın. Bu ayarları daha sonra deęiřtirebilirsiniz. Eđn ģım الورق ونوعه المناسب لدرج الورق. ويمكن تغيير هذه الإعدادات لاحقًا. اندازہ کاغذ و نوع کاغذ قرار داده شده در کاست کاغذ را تنظیم کنید. می‌توانید بعداً این تنظیمات را تغییر دهید. Weka ukubwa wa karatasi na aina ya karatasi kwa kaseti ya karatasi. Unaweza kubadilisha mipangilio hii baadaye.

14 Kai popieriaus nustatymas baigtas, rodomas spausdinimo kokybės reguliavimo ekranas. Atlikdami koregavimus vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Kui paberiseadistus on lõpetatud, kuvatakse prindikvaliteedi kohandamise kuva. Järgige kohanduste tegemiseks ekraanil kuvatud juhtnõore. Kağıt ayarı tamamlandığında, baskı kalitesi ayar ekranı görüntülenir. Ayarları yapmak için ekrandaki talimatları izleyin. عند اكتمال إعداد الورق، يتم عرض شاشة ضبط جودة الطباعة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء عمليات الضبط. پس از پایان تنظیمات کاغذ، صفحه تنظیم کیفیت چاپ نمایش داده می‌شود. برای اعمال تنظیمات، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

Mpangilio wa karatasi ukiwa kamili, skrini ya urekebishaji wa ubora wa uchapishaji itaonyeshwa. Fuata maagizo kwenye skrini ili kufanya marekebisho.

15 Atlikite fakso nustatymus. Vėliau šias nuostatas galėsite pakeisti. Jei dabar nenorite atlikti nustatymų, uždarykite fakso nustatymų ekraną.

Määrake faksisätteid. Saate neid sätteid hiljem muuta. Kui te ei soovi neid sätteid kohe teha, siis sulgege faksikuva.

Faks ayarlarını yapın. Bu ayarları daha sonra deęiřtirebilirsiniz. Ayarları řimdi yapmak istemiyorsanız, faks ayarları ekranını kapatın.

اضبط إعدادات الفاكس. ويمكن تغيير هذه الإعدادات لاحقًا. إذا كنت لا تريد ضبط الإعدادات الآن، فأغلق شاشة إعدادات الفاكس.

تنظیمات نمابر را انجام دهید. می‌توانید بعداً این تنظیمات را تغییر دهید. اگر نمی‌خواهید همین حالا تنظیمات را انجام دهید، صفحه تنظیمات نمابر را ببندید.

Fanya mipangilio ya faksi. Unaweza kubadilisha mipangilio hii baadaye. Ikiwa hutaki kufanya mipangilio sasa, funga skrini ya mipangilio ya faksi.


16 Prijunkite telefono kabeli. Ūhendage telefonikaabel. Bir telefon kablosu baęlayın. وصل كبل الهاتف. يك كابل تلفن وصل کنید.

Unganisha kebo ya simu.

	Prisijungimas prie PSTN arba PBX PSTN-i vōi PBX-iga ūhendamine PSTN veya PBX'e baęlantı التوصيل بـ PSTN أو PBX اتصال به PSTN یا PBX Kuunganisha kwenye PSTN au PBX
	Prisijungimas prie DSL arba ISDN DSL-i vōi ISDN-iga ūhendamine DSL veya ISDN'ye baęlantı التوصيل بـ DSL أو ISDN اتصال به DSL یا ISDN Kuunganisha kwenye DSL au ISDN

Turimas telefono kabelis	RJ-11 telefono linijos / RJ-11 telefono aparato jungtis.
Saadaval telefonikaabel	RJ-11 telefoniliini / RJ-11 telefonikomplekti ūhendus.
Kullanılabilir telefon kablosu	RJ-11 Telefon Hattı / RJ-11 Telefon seti baęlantısı.
كبل الهاتف المتاح	خط الهاتف / توصيل جهاز الهاتف RJ-11.
كابل تلفن موجود	خط تلفن RJ-11 / ست اتصال تلفنی RJ-11.
Kebo ya simu inayopatikana	Laini ya Simu ya RJ-11 / Muunganisho wa seti ya simu ya RJ-11.

Priklausomai nuo vietovės, telefono kabelis gali būti pridėtas prie spausdintuvo, jei taip, naudokite šį kabelį. Telefonikaabel vōib olenevalt asukohast printeriga kaasas olla, kui on, siis kasutage seda. Bölgeye baęlı olarak birlikte bir telefon kablosu dahil edilebilir, dahil edildiyse kabloyu kullanın. قد يتم تضمين كبل هاتف مع الطابعة حسب المنطقة، وإذا كان الأمر كذلك، فاستخدم الكبل. بسته به منطقه، ممکن است كابل تلفن همراه چاپگر باشد؛ در این صورت، از آن كابل استفاده کنید. Kutegemea eneo, kebo ya simu inaweza kujumuishwa kwenye kichapishi, iwapo ipo, tumia kebo hiyo.



Jei norite naudotis ta pačia telefono linija kaip ir telefonas, nuimkite dangtelį ir prijunkite telefoną prie EXT. prievado.

Kui soovite kasutada telefoniga sama telefoniliini, eemaldage kate ja ūhendage telefon porti EXT.

Telefonunuzla aynı telefon hattını kullanmak istiyorsanız, kapaęı çıkartın ve ardından telefonu EXT. baęlantı noktasına baęlayın.

إذا كنت ترغب في مشاركة خط الهاتف نفسه مع هاتفك، فقم بإزالة الغطاء ثم توصيل الهاتف بمنفذ EXT. اگر می‌خواهید از خط تلفن یکسانی برای تماس تلفنی و چاپگر استفاده کنید، درپوش را جدا کنید و تلفن را به درگاه EXT متصل کنید.

Iwapo unataka kushiriki laini hiyo ya simu sawa na simu yako, ondoa kifuniko na kisha uunganishe simu kwenye kituo cha EXT.

18 Prijunkite kompiuterį arba išmanųjį įrenginį prie spausdintuvo. Apsilankykite svetainėje, kad įdiegtumėte programinę įrangą ir sukonfigūrotumėte tinklą. „Windows“ naudotojai taip pat gali įdiegti programinę įrangą ir sukonfigūruoti tinklą naudodami pridėdamą kompaktinį diską. Ūhendage arvuti vōi nutiseade printeriga. Tarkvara installimiseks ja vōrgu konfigureerimiseks külastage veebisaiti. Windowsi kasutajad saavad tarkvara installida ja vōrku konfigureerida ka lisatud CD abil. Bilgisayarınızı veya akıllı cihazınızı yazıcıya baęlayın. Yazılımı indirmek ve aęı yapılandırmak için web sitesini ziyaret edin. Ayrıca Windows kullanıcıları da, temin edilen CD ile yazılımı yükleyebilir ve aęı yapılandırabilir.

وَصَلِّ الكمبيوتر أو الجهاز الذكي بالطابعة. يمكنك زيارة موقع الويب لتنصيب البرنامج وتكوين الشبكة. يمكن لمستخدמי Windows أيضًا تثبيت البرامج وتكوين الشبكة باستخدام القرص المضغوط المرفق. رایانه یا دستگاه هوشمند خود را به چاپگر متصل کنید. برای نصب نرم‌افزار و پیکربندی شبکه به وب‌سایت مراجعه کنید. کاربران Windows همچنین می‌توانند برای نصب نرم‌افزار و پیکربندی شبکه از CD ارائه‌شده استفاده کنند.

Unganisha kompyuta yako au kifaa chako mahiri kwenye kichapishi. Tembelea tovuti ili kusakinisha programu na kusanidi mtandao. Watumiaji wa Windows pia wanaweza kusakinisha programu na kusanidi mtandao kwa kutumia CD iliyotolewa.



Troubleshooting

Norėdami pašalinti trikdžius, paspauskite 2 pagalbos mygtuką. Naudojant šią funkciją pateikiami išsamūs animuoti nurodymai, susiję su dauguma klausimų, pvz., kaip pakoreguoti spausdinimo kokybę ir kaip įdėti popierių.


Törkeotsinguks vajutage nuppu 2. See funktsioon pakub üksikasjalikke ja animeeritud juhtnõore enamiku toimingute kohta, nagu prindikvaliteedi reguleerimine, paberi laadimine jne.

Sorun giderme üzerine destek almak için 2 üzerine basın. Bu özellik, yazdırma kalitesini ayarlama ve kağıt yükleme gibi çoęu sorun için adım adım ve hareketli talimatlar sağlar.

لستكشاف الأخطاء وإصلاحها، اضغط على 2 للحصول على المساعدة. تُوفّر هذه الميزة إرشادات مفصلة مقدمة في شكل رسوم لمعظم المشكلات التي قد تواجهك مثل ضبط جودة الطباعة وتحميل الورق.

برای عیب‌یابی 2 را جهت مشاهده راهنمایی فشار دهید. این ویژگی دستورالعمل‌های مرحله به مرحله و انیمیشنی در رابطه با اغلب مشکلات از قبیل تنظیم کیفیت چاپ و بارگذاری کاغذ ارائه می‌کند.

Ili kutatua hitilafu, bonyeza 2 ili kupata usaidizi. Kipengele hiki hutoa hatua kwa hatua na maagizo ya uhuishaji kwa masuala mengi kama vile kurekebisha ubora wa chapisho na kupakia karatasi.



Radio Equipment Information

For users in Europe and UK

Dažnio diapazonas Sagedusvahemik	2,400–2,483.5 MHz
Maksimali radijo dažnio perdavimo galia Maksimaalne edastatav raadiosageduslik võimsus	20.0 dBm (EIRP)

Türkiye'deki kullanıcılar için

Frekans Aralığı	2400–2483,5 MHz 5150–5250 MHz 5250–5350 MHz 5470–5725 MHz
İletilen En Yüksek Radyo Frekansı Gücü	20,0 dBm (EIRP)